

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Lesson # 14 , 2017

Ayahs(83-91)

A #	Juz # 1	سورة البقرة	Ayat 83-91	S #
	English meaning	Urdu meaning	Arabic words	
83	(of) the close relatives	قرابت دار	ذِي الْقُرْبَى	1
	Good	اچھی بات	حُسْنًا	2
	(are) ones who turned aside	پھر جانے والے	مُعْرِضُونَ	3
84	Your homes	تمہاری بستیاں	دِيَارِكُمْ	4
	you(all) confirmed	تم نے اقرار کیا	أَقْرَرْتُمْ	5
	you(all) bear witness	تم گواہ ہو	تَشْهَدُونَ	6
85	you(all) support(each other)	تم چڑھائی کرتے ہو	تَنْظَاهِرُونَ	7
	The sin	گناہ	الْإِثْمِ	8
	The injustice	سرکشی	وَالْعُدْوَانِ	9
	(as) prisoners	قیدی (جمع)	أَسَارَى	10
	you(all) ransom	تم بدلہ	تُقَادُوهُمْ	11

	them	دے کر چھڑاتے ہو		
	(is) one unlawful	حرام کیا گیا	مُحَرَّمٌ	12
	(is) disgrace/ humiliation	رسوائی	خِزْيٌ	13
	They are (will be) returned	وہ لوٹائے جائیں گے	يُرَدُّونَ	14
86	They are(will be) lightened	ہلکا کیا جائے گا	يُخَفَّفُ	15
87	We sent in succession	ہم نے پے درپے بھیجے	فَقَيْنَا	16
	The clear sign	کھلی نشانیاں	الْبَيِّنَاتِ	17

	We strengthened him	ہم نے مدد کی اسکی	أَيَّدْنَاهُ	18
	The holy	حضرت جبرئیل علیہ السلام	رُوحِ الْقُدْسِ	19
	(he) came (to) you(all)	پاس آیا تمہارے	جَاءَكُمْ	20
	(does)not (it/she) desire	نہ چاہتے	لَا تَهْوَى	21
88	(are) covered	پردہ	عَلَفَ	22
	Rather	بلکہ	بَلْ	23
	(he) cursed them	لعنت کی ان پر	لَعَنَهُمْ	24

89	They seek victory	وہ فتح مانگتے	يَسْتَفْتِحُونَ	25
	They recognized	پہچانا انہوں نے	عَرَفُوا	26
90	How bad! (it/she) what	براہے جو	بِئْسَمَا	27
	(due to) rebellion	ضد	بَعِيًّا	28
	One disgracing	رسوا کرنے والا	مُهِينٌ	29
91	(is) behind(beside)	پیچھے اسکے	وَرَاءَهُ	30
	Then why(for what)	سو کیوں	فَلِمَ	31
	Altogether words		New words	
	200		31	